

قضا نماز میں تخفیف کا حکم و طریقہ

مجیب: مولانا محمد کفیل رضا عطاری مدنی

فتویٰ نمبر: Web-1347

تاریخ اجراء: 01 رجب المرجب 1445ھ / 13 جنوری 2024ء

دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

سوال

قضاء نمازوں میں تخفیف بیان کی گئی ہے، کیا وہ تخفیف ہر رکعت میں کرنی ہے؟ مثلاً: اگر ظہر کی قضا کر رہے ہیں، تو جو چار فرائض پڑھنے ہیں، اس کی چاروں رکعات میں تخفیف کی جائے گی؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

قضا نمازوں میں تخفیف کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ اس شخص کے لیے بیان کی جاتی ہے جس کے ذمہ بہت زیادہ قضا نمازیں ہوں اور ادا کرنے میں شدید دشواری ہوگی تو وہ تخفیف کے ساتھ صرف فرائض و واجبات اور سنن موگدہ کی رعایت کرتے ہوئے فرائض اور عشاء کے وتر ادا کر لے اگر کوئی کسی نماز میں تخفیف نہیں کرنا چاہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ مزید کارِ ثواب ہے۔

قضا نمازوں میں تخفیف کا طریقہ یہ ہے کہ: قضا ہر روز کی بیس رکعتیں ہوتی ہیں، دو فرض فجر کے، چار ظہر، چار عصر، تین مغرب، چار عشاء کے اور تین وتر۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلاً: ”سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اُس کو ادا کرتا ہوں۔“ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے۔ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کیلئے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رُکوع اور ہر سجدے میں تین تین بار ”سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم“ کی جگہ صرف ایک ایک بار کہے۔ مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہئے کہ جب رُکوع میں پورا پہنچ جائے اُس وقت سبحان کا ”سین“ شروع کرے اور جب عظیم کا ”میم“ ختم کر چکے اُس وقت رُکوع سے سراٹھائے۔ اسی طرح سجدے میں بھی کرے۔ ایک تخفیف (یعنی کمی) تو یہ ہوئی اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط ”سبحن اللہ“ تین بار کہہ کر رُکوع کر لے۔ مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ تیسری تخفیف (یعنی کمی) یہ کہ قعدہ اخیرہ میں تشهد یعنی التحیات کے بعد دونوں دُروود اور دعا کی جگہ

صِرْف ”اللهم صل على محمد والہ“ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف (یعنی کمی) یہ کہ وِثْرِ کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک بار یا تین بار ”رب اغفر لی“ کہے۔ (مُلَخَّصَ از فتاویٰ رضویہ مُخَرَّجہ ج ۸ ص ۱۵۷) یاد رکھئے! تخفیف (یعنی کمی) کے اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیے، معمول کی نمازیں سنت کے مطابق ہی پڑھئے اور ان میں فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سُنَن اور مستحبات و آداب کی بھی رعایت کیجئے۔ قضا نمازوں سے متعلق مزید معلومات کے لیے رسالہ ”قضا نمازوں کا طریقہ“ کا مطالعہ کیجئے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ



Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.daruliftaahlesunnat.net



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net